

Jer

Chapter 5

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	שׁוֹטְטוֹ گھومو	בְּחִיצוֹת بازاروں-میں	יְרוּשָׁלַם یروشلم-کے	וְרֵאוֹ- اور-دیکھو-	נָא نرا	וְדַעוּ اور-جانو	וּבְקִשׁוּ اور-ڈھونڈو	בְּרַחֲבוֹתֶיהָ چوراہوں-میں-آس-کے	אִם- اگر-
	H2351	H3389	H7200	H4994	H3045	H1245	H7339		
	תִּמְצְאוּ پاؤ	אִישׁ آدمی	אִם- اگر-	יֵשׁ ہے	עֲשֵׂה کرنے-والا	מִשְׁפָּט انصاف	מִבְּקִשׁ ڈھونڈنے-والا	אִמּוֹנָה ایمانداری	וְאֶסְלַח اور-معاف-کروں-گا
	H4672	H0376		H3426	H4941	H1245	H0530	H5545	

شخص بھی ایک تمہیں اگر کرو۔ بھی تفتیش کی چوکوں کے آس ہے۔ رہا ہو کیا کہ کرو پتا کے کر ملاحظہ کا جگہ ہر بھرو! گھومو میں گلیوں کی [یروشلم گا۔ دوں کر معاف کو شہر میں تو رہے طالب کا داری دیانت اور کرے انصاف جو جائے مل

2	וְאִם اور-اگر	חַי- زندہ-ہے-	יְהוּוָה یہوواہ	יֹאמְרוּ کہیں-گے	לְכִן اس-لئے	לְשַׁקֵּר جھوٹ-سے-	יִשְׁבְּעוּ: قسم-کھائیں-گے
		H3068	H0559	H8267	H7650		

ہیں۔ [بولتے جھوٹ بھی وقت کھاتے قسم کی حیات کی رب وہ

3	יְהוּוָה یہوواہ	עֵינֵיהֶם آنکھیں-تیری	תִּלְוָא کیا-نہیں	לְאִמּוֹנָה ایمانداری-کو	הִכִּיתָ مارا-ہے-ٹو-نے	אֲתָם انہیں	וְלֹא- اور-نہیں-	תִּלְוָה ڈکھا	כְּלִיָּתָם تباہ-کیا-انہیں	מֵאֲנִי انکار-کیا
	H3068	H3808	H0530	H5221	H0853	H3808		H3615	H3985	
	קָחַת لینے-سے	מוֹסֵר تربیت	חֲזָקוֹ سخت-کیے	פְּנֵיהֶם چہرے-اپنے	מִסְלַע چٹان-سے	מֵאֲנִי انکار-کیا	לְשׁוֹב: لوٹنے-سے			
	H3947	H4148	H2388	H6440	H5553	H3985	H7725			

نہیں۔ تیار لے کے پانے تربیت وہ لیکن ڈالا، کچل انہیں نے ٹو ہوا۔ نہ ڈکھ انہیں لیکن مارا، انہیں نے ٹو ہیں۔ چاہتی دیکھنا داری دیانت آنکھیں تیری رب، اے ہے۔ کیا انکار سے کرنے توبہ کر بنا سخت زیادہ کہیں سے پتھر کو چہرے اپنے نے انہوں

4	וְאֲנִי اور-میں	אֲמַרְתִּי نے-کہا	אֶד- بس-	דְּלִים غریب	הֵם ہیں-وہ	נֹדְעִים بیوقوف-ہیں	כִּי کیونکہ	לֹא نہیں	יָדַעוּ جانتے	דְּרָךְ راہ	יְהוּוָה یہوواہ-کی	מִשְׁפָּט شریعت
	H0589	H0559	H0389	H1800	H1992	H2973	H3808	H3045	H3045	H1870	H3068	H4941
	אֱלֹהֵיהֶם: خدا-اپنے-کی											
	H0430											

ہیں۔ نہیں واقف سے شریعت کی خدا اپنے اور راہ کی رب کہ ہیں رہے کر حرکتیں احمقانہ لے اس یہ ہیں۔ ایسے لوگ غریب [صرف سوچا، نے میں

5	אֱלֹכֶיהָ- جاؤں-گا-	לִי میں	אֶל- پاس-	תְּהַלְלִים بڑوں-کے	וְאֶדְבְּרָה اور-بات-کروں-گا	אֲתָם ان-سے	כִּי کیونکہ	תִּמְצְאוּ وہ	יָדַעוּ جانتے-ہیں	דְּרָךְ راہ	יְהוּוָה یہوواہ-کی
	H3212		H0413		H1696	H0853		H1992	H3045	H1870	H3068
	מִשְׁפָּט شریعت	אֱלֹהֵיהֶם خدا-اپنے-کی	אֶד- لیکن	תִּמְצְאוּ وہ	יִחַדְוּ مل-کر	שִׁבְרוּ توڑ-چکے-ہیں	עָל جوا	נִתְקוּ توڑ-ڈالے-ہیں	מוֹסְרוֹת: بندھن		
	H4941	H0430	H0389	H1992	H7665	H5923	H523	H5423	H4147		

اپنے نے سب کے سب افسوس، لیکن گے۔ [ہوں جانتے کو شریعت کی اللہ اور راہ کی رب ضرور تو وہ ہوں۔ کرتا بات سے اُن کر جا پاس کے بزرگوں میں آؤ، ہیں۔ ڈالے توڑ رہے اور جوئے

6	על- إس-	כין لئے	הקם مارے-گا-انہیں	אר'ה شیر	מזער جنگل سے-	זאב بھیڑیا	עربות بیابان-کا	יש'ר'ם تباہ-کرے-گا-انہیں	נמר چیتا
			H5221			H2061	H6160	H7703	H5246

גהת-لگائے-بوئے	על- پر-	ערי'ם شہروں-کے-ان-کے	כל- بر-	היו'א نکلے-والا	מהנה ان-میں-سے	י'ר'ף پھاڑا-جانے-گا	כי کیونکہ	רב بہت-ہیں
H8245			H3605	H3318	H2007	H2963		H7231

מש'בותיהם [برگشتگیاں-ان-کی]	ע'מו بڑھ-گئے-ہیں	מש'בותיהם [מש'בותיהם:]	מש'בותיהם [برگشتگیاں-ان-کی]
H4878	H4878		H4878

نکلنے پر کر بیٹھ میں تاک قریب کے شہروں کے ان چیتا گا، کرے برباد انہیں کر آسے بیابان بھیڑیا گا، کرے حملہ پر ان کر نکل سے جنگل شیرببر لئے اس ہے۔ کیا اظہار کا بے وفائی اپنی نے انہوں دفعہ متعدد ہیں، بوئے سرکش بار بار وہ کیونکہ گا۔ ڈالے پھاڑ کو والے

7	אי کیوں-	לואת [معاف-کروں-]	אסלוח- [معاف-کروں-]	אסלוח- (معاف-کروں-)	ל'ך تجھے	בני'ך بیٹوں-نے-تیرے	ע'זבוני چھوڑ-دیا-مجھے	וי'ש'בעו اور-قسم-کھائی	כל'א بغیر-
	H3035	H2063	H5545	H5545	H5545		H7650	H3808	

אל'הים خدا-کے	וא'ש'בע اور-سیر-کیا-میں-نے	אז'ם انہیں	וי'נ'אפו اور-زنا-کیا	ובית اور-گھر	זונה فاحشہ-کے	ית'ז'ד'ו: جمع-بوئے-ہیں
H0430	H7646	H0853	H5003	H2181	H1413	

توبہ کی پوری ضرورت پر کی ان نے میں گو ہیں۔ نہیں خدا جو بے کھائی قسم کی ان کے کر ترک مجھے نے اولاد تیری کروں؟ معاف کیسے تجھے میں رہیں۔ لگی قطاریں لمبی کی ان سامنے کے چکلے کیا، زنا نے انہوں

8	סוסים گھوڑے	מ'זנים اچھی-طرح-کھلائے-بوئے	מ'ש'כים صبح-کو-جاگنے-والے	ה'יו ہیں	א'יש بر-ایک	א'ל- پر-	א'שת بیوی	ר'עהו پڑوسی-اپنے-کی	י'צ'ק'לו: بنہاتے-ہیں
			H7904	H1961	H0376	H0413	H0802	H7453	

ہے۔ مارتا آنکہ کو بیوی کی پڑوسی اپنے ہوا بنہاتا ایک ہر ہیں۔ گئے آ میں مستی جو ہیں گھوڑے تازے موٹے لوگ یہ

9	ה'על- کیا-ان-	אל'ה بانوں-پر-نہیں-	לוא- سزا-دوں-گا	א'פק'ד فرماتا-ہے-	נ'אם- یہوواہ	יה'וה اور-اگر	וא'ם قوم-سے-	ב'נוי جو-	א'שר- ایسی-ہے	כ'זה نہیں	לא نہیں
		H0428	H3808	H5002	H3068				H2088	H3808	

ת'ת'נק'ם بدلے-لے-گی	נ'פ'שי: جان-میری	ס -
H5358	H5315	

لوں؟ نہ انتقام سے قوم ایسی میں کیا دوں؟ نہ سزا انہیں میں جواب میں کیا ہے، فرماتا رب

10	ע'לו چڑھو	ב'שר'ותיה' قطاروں-پر-اُس-کی	וש'חתו اور-تباہ-کرو	וכ'לה اور-مکمل	אל- نہ-	ת'ע'שו کرو	ה'ס'ירו اتار-دو	נ'ט'יש'ותיה' ٹہنیاں-اُس-کی	כי کیونکہ	לוא نہیں
	H5927	H8284	H7843	H3617	H0408		H5493	H5189		H3808

לי'ה'וה یہوواہ-کی	ה'מה: ہیں-وہ
H3068	H1992

رب وہ کیونکہ کرو، دُور کو شاخوں کی بیلوں کرنا۔ مت ختم پر طور مکمل انہیں لیکن دو۔ کر برباد کچھ سب اور پڑو ٹوٹ پر باغوں کے انگور کے اُس جاؤ، ہیں۔ نہیں لوگ کے

11	כי کیونکہ	ב'נ'וד دغا	ב'נ'וד دغا-کیا	כי مجھ-سے	בית گھرانے	יש'رائ'ל اسرائیل-کے	ובית اور-گھرانے	יה'וה یہوداہ-کے	נ'אם- فرماتا-ہے	יה'וה: یہوواہ
		H0898	H0898		H3478		H3063	H5002	H3068	

ہیں۔ رہے بے وفا سے مجھ سے طرح ہر باشندے کے یہوداہ اور اسرائیل ہے، فرماتا رب کیونکہ

12	קָחְשׁוֹ	בֵּיהוָה	וַיֹּאמְרוּ	לֹא-	הוּא	וְלֹא-	תִבּוֹא	עָלֵינוּ	רָעָה	וַחֲרַב	וַרְעֵב	לֹא
	جھٹلایا	یہوواہ-کو	اور-کہا	نہیں-	وہ	اور-نہیں-	آئے-گی	ہم-پر	بلا	اور-تلوار	اور-قحط	نہیں
	H3584	H3068	H0559	H3808	H1931	H3808	H0935			H2719	H7458	H3808

نِרְאָה:
دیکھیں-گے
[H7200](#)

گا۔ پہنچے نقصان سے کال نہ تلوار، نہ ہمیں گی۔ آئے نہیں مصیبت پر ہم گا۔ کرے نہیں کچھ [] وہ ہے، کہا کے کر انکار کا رب نے انہوں

13	וְהַנְּבִיאִים	יְהוָה	לְרוּחַ	וְהַדְּבָר	אֵין	בָּהֶם	כֹּה	יַעֲשֶׂה	לָהֶם:	ס
	اور-نبی	ہوں-گے	ہوا-کو	اور-کلام	نہیں-ہے	ان-میں	ایسا	کیا-جائے-گا	ان-کے-ساتھ	.
	H5030	H1961	H7307		H0369		H3541			

گا []۔ جائے کیا ایسا ساتھ کے ہی اُن بلکہ ہے۔ نہیں میں اُن کلام کا رب اور ہیں، کرتے ہی بکواس تو وہ ہے؟ حیثیت کیا کی نبیوں

14	לָכֵן	כֹּה-	אָמַר	יְהוָה	אֱלֹהֵי	צְבָאוֹת	יֵעַן	דְּבַרְכֶם	אֶת-	הַדְּבָר	הַזֶּה
	اس-لئے	یوں-	فرماتا-ہے	یہوواہ	خدائے	لشکروں-کا	چونکہ	کہا-ہے-تم-نے	یہ-	بات	یہ
	H3541	H0559	H3068	H0430		H3282		H1696	H0853	H1697	H2088
	הַנְּבִיאִים	נִתְּן	דְּבָרֵי	בְּפִיךָ	לְאִישׁ	וְהָעָם	הַזֶּה	עֲצִים	וְאֶכְלָתֶם:		
	دیکھ-میں	دینا-ہوں	کلام-اپنے	منہ-میں-تیرے	آگ-کو	اور-قوم	یہ	لکڑی	اور-کھا-جائے-گی-انہیں		
	H2009	H5414	H1697	H6310	H0784	H2088	H6086		H0398		

کی لکڑی کو قوم اس کر بن آگ الفاظ میرے میں منہ تیرے لئے اس ہیں رہے کر باتیں ایسی لوگ چونکہ یرمیاہ، [] اے ہے، فرماتا خدا کا لشکروں رب لئے اس
گے۔ [] دیں کر ہسم طرح

15	הַנְּבִיאִים	מִבְּיָא	עֲלֵיכֶם	נָוִי	מִמְדָּרְךָ	בֵּית	יִשְׂרָאֵל	נֹאֵם-	יְהוָה	וְנָוִי	אֵיתָן
	دیکھ-میں	لا-رہا-ہوں	تم-پر	قوم	دُور-سے	گھرانے	اسرائیل-کے	فرماتا-ہے-	یہوواہ	قوم	مضبوط
	H2009	H0935			H4801		H3478	H5002	H3068		H0386
	הוּא	נָוִי	מֵעוֹלָם	הוּא	נָוִי	לֹא-	תִדְבַּע	לְשׁוֹנוֹ	וְלֹא	תִשְׁמַע	מִדְּבַר:
	ہے-وہ	قوم	قدیم-سے	ہے-وہ	قوم	نہیں-	جانتے	زبان-اُس-کی	اور-نہیں	سمجھو-گے	کیا-بولے-گی
	H1931		H5769	H1931		H3808	H3045	H3956	H3808	H8085	H4100

ٹو باتیں کی جس اور جانتا نہیں ٹو زبان کی جس قوم قدیم اور پختہ ایسی گا، بھیجوں خلاف تیرے کو قوم کی دُور میں اسرائیل، [] اے ہے، فرماتا رب
سمجھتا۔ نہیں

16	אֲשַׁפְתּוּ	כִּקְבֹּר	פְּתוּחַ	כָּלֶם	גְּבוּרִים:
	ترکش-اُس-کا	مانند-قبر-کے	کھلی-ہوئی	سب	بہادر-ہیں
	H0827	H6913		H3605	H1368

ہیں۔ سورمے زبردست سب کے سب ہیں، قبریں کھلی ترکش کے اُن

17	וְאָכַל	קִצְיָרָף	וְלַחְמָךָ	יֹאכְלוּ	בְּנֵיךָ	וּבְנוֹתֶיךָ	יֹאכְלוּ	צֹאנֶךָ
	اور-کھائے-گی	فصل-تیری	اور-روٹی-تیری	کھائیں-گے	بیٹوں-کو-تیرے	اور-بیٹیوں-کو-تیری	کھائے-گی	بھیڑ-بکری-تیری
	H0398		H3899	H0398		H1323	H0398	H6629

وּבְקָרְךָ	יֹאכְלוּ	גְּפָנֶיךָ	וּתְאֵנֹתֶיךָ	יְרֻשָׁשׁ	עָרֵי	מִבְּצֻרֶיךָ	אֲשָׁר	אֲתָה
اور-مویشی-تیرے	کھائے-گی	انگور-تیری	اور-انجیر-تیری	تباہ-کرے-گی	شہروں-کو	قلعہ-بند-تیرے	جن	ٹو
H1241	H0398	H1612	H8384	H7567		H4013		

בוֹטָח
بھروسا-رکھتا-ہے
بְהוֹסָא
ان-پر
בְּחָרְבֵי:
تلوار-سے
[H0982](#)
[H2007](#)
[H2719](#)

کے انجیر تیرے اور بیلین کی انگور تیری گائے بیل، تیرے بھیڑیکریاں، تیری بیٹیاں، بیٹے تیرے خوراک، تیری فصلیں، تیری گے: لیں کر بڑپ کچھ سب وہ
گے۔ دیں ملا میں خاک سے تلوار وہ انہیں ہو رکھتے بھروسا تم پر شہروں بند قلعہ جن درخت۔

18	وְנָם	בְּיָמֵים	הַהִמָּזָה	נֹאֵם	יְהוָה	לֹא	אֶעֱשֶׂה	אִתְּכֶם	כָּלָה:
	اور-پھر-بھی	دنوں-میں	آن	فرماتا-ہے-	یہوواہ	نہیں-	کروں-گا	تمہارے-ساتھ	مکمل-تباہی
	H1571	H3117	H1992	H5002	H3068	H3808	H0854	H3617	

بے-فرمان کا رب یہ گا۔ کروں نہیں برباد پر طور مکمل تمہیں وقت اُس میں بھی پھر

19	וְהָיָה	כִּי	תֵאמְרוּ	תַּחַת	מָה	עָשָׂה	יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	לָנוּ	אֶת-	כָּל-
	اور-ہوگا	جب	کہو-گے-تم	بدلے-میں	کس-بات-کے	کیا-ہے	یہوواہ	خدا-ہمارے-نے	ہمارے-ساتھ	یہ-	سب-
	H1961	H0559	H8478	H4100	H3068	H0430	H0853	H3605			

	אֱלֹהֵי	וְאִמְרַתְּ	אֲלֵיהֶם	כְּאִשֶּׁר	עֲזַבְתָּם	אוֹתִי	וַתַּעֲבֹדִי	אֱלֹהֵי	יִכְרֹ
	باتیں	اور-کہے-گا-تُو	اُن-سے	جیسے	چھوڑا-ہے-تم-نے	مجھے	اور-عبادت-کی	معبودوں-کی	غیر
	H0428	H0559	H0413		H0853	H5647	H0430	H5236	

	בְּאֶרְצְכֶם	בְּן	תַּעֲבֹדִי	זָרִים	בְּאֶרֶץ	לֹא	לְכֶם:	ס
	زمین-اپنی-میں	ایسے	خدمت-کرو-گے	اجنبیوں-کی	زمین-میں	نہیں	تمہاری	-
	H0776	H5647	H0776	H3808				

میں وطن اپنے کے کر ترک مجھے تم بتا، انہیں تو کیا؟ کیوں ساتھ ہمارے کچھ سب یہ نے خدا ہمارے رب پوچھیں، سے تجھ لوگ اگر یرمیاہ، اے گے۔ کرو خدمت کی اجنبیوں میں ملک دُور سے وطن تم لے اس ہو، رہے کرتے خدمت کی معبودوں اجنبی

20	הַיְדִידִי	זֹאת	בְּבֵית	יַעֲקֹב	וְהַשְּׂמִיעוּנָה	בִּיהוּדָה	לְאִמֹר:
	بتاؤ	یہ	گھرانے-میں	یعقوب-کے	اور-سناؤ	یہوداہ-میں	کہ
	H5046	H2063	H3290	H8085	H3063	H0559	

دواطلاع کو یہوداہ اور کرو اعلان میں اسرائیل

21	שְׂמֹעוּ-	נָא	זֹאת	עַם	סָכְלָ	וְאִין	לֵב	עֵינַיִם	לֶהֱם	וְלֹא	יִרְאוּ	אֲזַנַיִם
	سنو-	ذرا	یہ	قوم	بیوقوف	اور-بغیر	سمجھ-کے	آنکھیں	اُن-کی	اور-نہیں	دیکھتے	کان
	H8085	H4994	H2063	H5530	H0369	H3808	H3808	H7200	H0241			

	لֶהֱם	وְלֹא	יִשְׁמְעוּ:
	اُن-کے	اور-نہیں	سننے
	H3808	H8085	

سکتے۔ نہیں سن وہ لیکن ہیں تو کان کے اُن سکتے، نہیں دیکھ وہ لیکن ہیں تو آنکھیں کی اُن افسوس، لیکن سنو! قوم، ناسمجھ اور بیوقوف اے کہ

22	הַאֲוֹתֵי	לֹא	תִּירְאוּ	נֹאֵם-	יְהוָה	אִם	מִפְּנֵי	לֹא	תַחֲלוּ	אֲשֶׁר-	שְׂמֹרֵי
	کیا-مجھ-سے	نہیں-	ڈرتے	فرماتا-ہے-	یہوواہ	اگر	سامنے-میرے-سے	نہیں	کانپتے	جس-نے-	رکھا
	H0853	H3808	H3372	H5002	H3068	H6440	H3808				

	חֹזְלֵי	גְבוּלֵי	לְאִים	חֻק-	עוֹלָם	וְלֹא	יַעֲבֹרְנָהוּ	וְיִתְנַעֲשׂוּ	וְלֹא	יִכְלֹ
	ریت	حد	سمندر-کی	قانون-	ابدی	اور-نہیں	عبور-کرے-گا	اور-موجیں-اُٹھتی-ہیں	اور-نہیں	سکتیں
	H2344	H1366	H3220	H2706	H5769	H3808	H1607	H3808	H3201	

	וְהָמוּ	גְלוּ	וְלֹא	יַעֲבֹרְנָהוּ:
	اور-گرجتی-ہیں	لہریں-اُس-کی	اور-نہیں	عبور-کرتیں
	H1993	H1530	H3808	

ایک کی، مقرر سرحد کی سمندر سے ریت نے ہی میں لو! سوچ چاہئے؟ کانپنا نہیں حضور میرے چاہئے، ماننا نہیں خوف میرا تمہیں کیا ہے، فرماتا رب سے حد مقررہ تو بھی گرجیں خوب موجیں کی اُس گو ہے، رہتا ناکام تو بھی مارے لہریں سے زور وہ گو سکتا۔ گزر نہیں کبھی وہ سے پر جس بنائی باڑ ایسی سکتیں۔ بڑھ نہیں آگے

23	وְלֹעֵם	הָיָה	הָיָה	לֵב	סוֹרֵר	וּמוֹזְרָה	סָרוּ	וַיִּלְכְּדוּ:
	اور-قوم	اس	بے	دل	باغی	اور-سرکش	بھٹک-گئے	اور-چلے-گئے
	H2088	H1961	H5637	H4784	H5493	H3212		

ہیں۔ پڑے چل پر رابوں ہی اپنی کر بٹ سے راہ صحیح لوگ یہ ہے۔ سرکش اور ضدی دل کا قوم اس افسوس، لیکن

24	וְלֹא- אֲמַרְוּ	בְּלִבְכֶם	נִירָא	נָא	אֶת- יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	הַזֶּזֶן	נִשְׁמַע	[ויררה]
	اور-نہیں- کہا	دلوں-اپنے-میں	ڈریں	ذرا	سے- یہوواہ	خدا-ہمارے	دینے-والا	بارش	[اور-پہلی]
	H3808	H3824	H3372	H4994	H0853	H3068	H5414	H1653	H3138

(וּמְלָקוֹשׁ	בְּעֵתוֹ	שְׂבָעוֹת	חֻקוֹת	קִצִּיר	יִשְׁמְרֵ-	לָנוּ:
)	اور-آخری	وقت-پر-اپنے	بفتوں-کے	قوانين	کٹائی-کے	محفوظ-رکھتا-ہے-	ہمارے-لئے
H3138	H4456	H6256	H7620	H2708		H8104	

کی اس ویبی ہے، کرتا مہیا بارش میں موسم کے بہار اور خزاں پر وقت ہمیں ویبی کیونکہ مائیں۔ خوف کا خدا اپنے رب ہم آؤ، کہتے، نہیں کبھی میں دل وہ جائیں۔ ایک سے باقاعدگی فصلیں ہماری کہ ہے دیتا ضمانت

25	עֲוֹנוֹתֵיכֶם	הִטּוּ- אֶלָּה	וְחַטֹּאוֹתֵיכֶם	מָנְעוּ	הַטּוֹב	מִכֶּם:
	گناہوں-نے-تمہارے	بٹا-دیا-ہے-	ان-کو	اور-خطاؤں-نے-تمہاری	روک-رکھا-ہے	بھلائی تم-سے
	H5771	H5186	H0428		H4513	

ہے۔ رکھا روک سے چیزوں اچھی ان تمہیں نے گناہوں تمہارے دیا، کر محروم سے نعمتوں ان تمہیں نے کاموں غلط تمہارے اب

26	כִּי- נִמְצְאוּ	בְּעַמִּי	רְשָׁעִים	יְשׁוּרִים	כְּשֵׁף	יְקוּשִׁים	הַצִּיבוּ
	کیونکہ- پائے-گئے	قوم-میں-میری	شریر	چھپ-کر-بیٹھتے-ہیں	مانند-شکاری-کے	پھندے-لگاتے-ہیں	بجھاتے-ہیں
	H4672	H7563		H7789	H7918	H3353	H5324

מִשְׁחֵית	אֲנָשִׁים	יְלָדָיו:
جال	آدمیوں	پکڑتے-ہیں
H4889	H0376	H3920

جاتا چھپ کر جھک لئے کے پکڑنے پرندے شکاری طرح جس ہیں۔ ربتے لگائے تاک کی دوسروں جو ہیں جاتے پائے افراد بے دین اسے میں قوم میری کیونکہ ہیں۔ پھنساتے میں ان کو لوگوں کر لگا پھندے وہ ہیں۔ جاتے بیٹھ میں گھات کی دوسروں وہ طرح اسی ہے،

27	כְּכֹלֹב	מָלֵא	עֹרָה	כֶּן	כִּי־הֵם	מְרִמָּה	עַל-	כֶּן
	مانند-پنجرے-کے	بھرے-ہوئے	پرندوں-سے	ایسے	گھر-ان-کے	بھرے-ہوئے-ہیں	فریب-سے	اس-
	H3619	H4392	H5775		H4392	H4820		

נִדְרָו	וַיַּעֲשִׂרוּ:
بڑے-ہو-گئے	اور-دولتمند-ہو-گئے
H1431	H6238

طاقت امیر، وہ سے چالوں اپنی ہیں۔ ربتے بھرے سے فریب گھر کے لوگوں شریر ان طرح اسی ہے دیتا بھر سے چڑیوں کو پنجرے اپنے شکاری طرح جس اور

28	שָׁמְנוּ	עָשְׂתוּ	גַם	עֲבָרוּ	דְּבָרֵי-	לָע	דִּין	לֹא-	לָנוּ	דִּין	יָתוּם
	موٹے-ہو-گئے	چمکتے-ہیں	بلکہ	بڑھ-گئے-ہیں	باتوں-میں-	برائی-کی	مقدمہ	نہیں-	سنتے	مقدمہ	یتیم-کا
	H8080		H1571		H1697		H1779	H3808	H1777	H1779	H3490

וַיִּצְלִיחוּ	וּמִשְׁפָּט	אֲבִינִים	לֹא	שָׁפְטוּ:
اور-کامیاب-ہوتے-ہیں	اور-حق	غریبوں-کا	نہیں	کرتے
H4941	H4392	H0034	H3808	H8199

جائے مل کچھ وہ انہیں تاکہ ہیں کرتے مدد کی یتیموں وہ نہ نہیں۔ ہی کرتے انصاف وہ ربتی۔ نہیں حد کی کاموں غلط کے ان ہیں۔ گئے ہو تازے موٹے اور ہیں۔ رکھتے قائم حقوق کے غریبوں نہ ہے، حق کا ان جو

29	הָעֵל-	אֶלָּה	לֹא-	אֶפְקָד	נֶאֱמַר-	יְהוָה	אִם	בְּנוֹי	אֲשֶׁר-	כָּזָה	לֹא
	کیا-ان-	باتوں-پر	نہیں-	سزا-دوں-گا	فرماتا-ہے-	یہوواہ	اگر	قوم-سے-	جو-	ایسی-ہے	نہیں
	H0428	H3808		H5002	H3068			H2088		H3808	

תְּחַנְקֵם	נִפְשֵׁי:	ס
بدلے-لے-گی	جان-میری	.
H5358	H5315	

چاہئے؟ لینا نہیں بدلے سے قوم والی کرنے حرکتیں کی قسم اس مجھے کیا چاہئے؟ دینی نہیں سزا کی اس انہیں مجھے کیا بتاؤ، مجھے اب ہے، فرماتا رب

30 שְׁמִיָּהּ חֵירַת-אֲנִיזִים וְשִׁעְרוֹנָה נְהִיטָה בְּאֶרֶץ:
حیرت-انگیز اور-دہشت-ناک ہوا-ہے زمین-میں
[H8047](#) [H1961](#) [H0776](#)

ہے۔ گھن قابل اور ناک بول وہ ہے ہوا میں ملک کچھ جو

31 הַנְּבִיאִים נְבוֹט-כִּי- נִבְאָו- בְּשִׁקָּר וְהַכֹּהֲנִים וְרַדְוֵי עַל- יְדִיָּהִם וְעַמִּי אֲהַבּוּ
نبیوں-نے نبوت-کی- جھوٹ-سے اور-کاہنوں-نے اور-قوم-میری پسند-کرتی-ہے
[H5030](#) [H5012](#) [H8267](#) [H3548](#) [H3027](#) [H0157](#)

כִּן וּמָדָה- תַּעֲשׂוּ לְאַחֲרֵיהֶּ: אִסָּא אֲוֵר-כִּי- אֲכֹר-מִי-אֲס-כֵּ
ایسا اور-کیا- کرو-گے آخر-میں-اُس-کے
[H4100](#) [H0319](#)

بتاؤ، مجھے لیکن ہے۔ رکھتی عزیز رویہ یہ کا اُن قوم میری اور ہیں۔ کرتے حکومت سے مرضی ہی اپنی امام اور سناتے گوئیاں پیش جھوٹی نبی کیونکہ
گے؟ کرو کیا تم پھر تو گا جائے ہو ختم کچھ سب یہ جب